



ملتان سلطانز کا ہوم گراؤنڈ پر ناقابل شکست رہنے کا اعزاز برقرار

- کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 30 رنز سے شکست دے کر مسلسل تیسری کامیابی اپنے نام کر لی
- ناقابل شکست سنچری اسکور کرنے پر رائلٹی روسو مین آف دی میچ قرار
- شین واٹسن کی 41 گیندوں پر 80 رنز کی جارحانہ اننگز رائیگاں

ملتان، 29 فروری 2020ء:

ملتان سلطانز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر ناقابل شکست رہنے کا اعزاز برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے۔ میزبان ٹیم نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایچ بی ایل پی ایس ایل فائینل کے تینوں میچوں میں کامیابی حاصل کر کے یہ منفرد اعزاز اپنے نام کیا ہے۔

ملتان سلطانز نے ایونٹ کے 12 ویں میچ میں رائلٹی روسو کی شاندار سنچری کی بدولت مقررہ بیس اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ جواب میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم مقررہ بیس اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز ہی بنا سکی۔

تفصیلات کے مطابق ملتان سلطانز کے کپتان شان مسعود نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 48 کے مجموعی اسکور پر ابتدائی تین کھلاڑیوں کے پویلین واپس لوٹنے پر کپتان شان مسعود اور رائلٹی روسو نے کریز سنبھالی تو اوپنر جیمز ونس، 29، ذیشان اشرف 8 اور معین علی 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے۔

نئے آنے والے دونوں کھلاڑیوں نے میچ میں فائنٹ بیک کرتے ہوئے گراؤنڈ کے چاروں اطراف دلکش اسٹروک کھیلے۔ شان مسعود اور رائلٹی روسو نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے محض 64 گیندوں پر 139 رنز کی شراکت قائم کر کے میچ میں ملتان سلطانز کی گرفت مضبوط کر دی۔ رائلٹی روسو 46 گیندوں پر 100 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے۔ 227 سے زائد اسٹرائیک ریٹ پر مشتمل ان کی اننگز میں 10 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ شان مسعود 6 چوکوں کی بدولت 46 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ خوشدل شاہ اور سہیل تنویر نے 1، 1 رنز بنائے۔

کوئٹہ کے محمد نواز، محمد حسنین، بین کٹنگ، نسیم شاہ اور سہیل خان نے 1،1 وکٹ حاصل کی۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے ابتدائی بلے بازوں نے مزاحمت کی بھرپور کوشش کی مگر وہ ملتان سلطانز کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دینے میں ناکام رہے۔ شین واٹسن اور جیسن رائے پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 57 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ جیسن رائے 30 رنز بنا کر آؤٹ مگر شین واٹسن نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بلے سے رنز اگلتے رہے۔ انہوں نے 41 گیندوں پر 7 چھکوں اور 7 چوکوں کی بدولت 80 رنز کی اننگز کھیلی۔

بلاول بھٹی اور عمران طاہر کی عمدہ باؤنڈنگ کی بدولت کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا مڈل آرڈر مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور یکے بعد دیگرے آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹنا رہا۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی آخری 6 وکٹیں اسکور بورڈ پر محض 71 رنز کا اضافہ ہی کرسکیں۔

مہمان ٹیم مقررہ بیس اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔

ملتان سلطانز کے بلاول بھٹی نے 3 اور عمران طاہر نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

میچ میں شاندار سنچری اسکور کرنے پر رائیلی روسو کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

یکم مارچ بروز اتوار کو ایچ بی ایل پی ایس ایل فائینو میں صرف ایک میچ کھیلا جائے گا جہاں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں مدمقابل آئیں گی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com ●
@thePSL120 ●
@thePSL ●
PakistanSuperLeague ●
@thePSL ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4